

صولتہ الضیغ علی اعداء ابن مریم" کے نام سے کی جو مطبع سنگین لکھنؤ سے طابع ہوئی۔ مگر یہ بھی اُردو میں اپنے موضوع پر پہلی کتاب نہیں۔ اس سے دو سال پہلے ۱۲۳۶ھ/۱۸۳۰ء میں کسی نامعلوم مؤلف نے "ردِ نصاریٰ" کے نام سے ایک کتابچہ طابع کیا تھا۔ [تفصیل کے لیے دیکھیے: "عالمِ اسلام اور عیسائیت" بابت جنوری ۱۹۹۳ء، ص ۹-۱۳، فروری ۱۹۹۳ء، ص ۱۷-۱۸]

اگر مطبوعہ کتابوں کے ساتھ غیر مطبوعہ کتابوں کا ذکر کیا جائے تو "ردِ نصاریٰ" سے ایک سال پہلے (۱۲۳۵ھ) کی تالیف "جوابِ حمدیہ" کے قلمی نسخے ملتے ہیں۔ یہ کتاب اکرام الدین طاہر آبادی کی تالیف ہے اور جوابِ الجواب ہے مدراس کے ایک پادری کے رسالہ عیسوی کا، جو پادری مذکور نے ایک مسلمان عالم نعمت علی کے سوالوں کے جواب میں لکھا تھا۔ "جوابِ حمدیہ" کے نسخے برصغیر کے متعدد کتب خانوں میں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیے: [ڈاکٹر صلاح الدین، دہلی کے اُردو مخطوطات کی وصاحتی فہرست، دہلی: انجمن ترقی اُردو (ہند)، ۱۹۷۵ء، ص ۱۳۲]

"کتاب الاستفسار" کی زبان آج سے ڈیڑھ صدی پہلے کی زبان ہے۔ تاہم ذرا توجہ سے پڑھنے سے بات سمجھ میں آجاتی ہے، مگر مولانا آمل حسن مُمانی نے جہاں جہاں فارسی اقتباسات پیش کیے ہیں، اگر حواشی میں ان کے ترجمے دے دیے جاتے تو آج کے "فارسی ناشناس" قاری کے لیے سولت پیدا ہو جاتی۔

زیر تبصرہ اطاعتِ سفید کاغذ پر طبع ہوئی ہے اور ریگزیں کی جلد کے ساتھ مرتب ہے۔ (اختر راہی)

* انا جیل اور ہمارے نبی ﷺ

* کسرِ صلیب از روئے بائبل و قرآن

* عقیدہ ابینیتِ مسیح ﷺ: حقائق کی روشنی میں

جناب عبداللطیف ڈسکوی مطالعہ مسیحیت سے دلچسپی رکھتے ہیں۔ ان کی محض تحریروں پر "عالمِ اسلام اور عیسائیت" میں تبصرہ لکھا جا چکا ہے۔ مندرجہ بالا پمپٹوں کے موضوع ان کے عنوانات سے واضح ہیں۔ اول الذکر دو پمپٹ اسلامی مشن - سنت، نگر، لاہور نے طابع کیے ہیں، جبکہ تیسرا پمپٹ شعبہ نشر و اطاعت جامع مسجد خضریٰ-ڈسکہ (ضلع سیالکوٹ) کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ "انا جیل اور ہمارے نبی ﷺ" دو حصوں میں منقسم ہے اور دونوں حصوں کی عبارت کا بڑا حصہ لفظ بلفظ ایک جیسا ہے۔ اس تکرار کی حکمت سمجھ میں نہیں آئی۔ (ادارہ)